



رسول اللہ ﷺ ایک گدھا دیکھا، جس کے چہرے پر داغ کا نشان تھا آپ ﷺ اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے پر داغ کا نشان تھا آپ ﷺ اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا (عباس رضی اللہ عنہ جو اس گدھے کے مالک تھے) نہ کہہ کر اللہ کی قسم اب میں اس جگہ پر داغ دوں گا جو چہرے سے سب سے زیادہ دور ہے عباس رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے گدھے کی سرین پر داغ دے کر نشان لگایا گیا عباس رضی اللہ عنہ وہ پہلا آدمی ہیں جنہوں نے سرین پر داغ لگایا

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

حدیث کا مفہوم: نبی ﷺ نے ایک گدھا دیکھا، جس کے چہرے میں داغ کر نشان زد کیا گیا تھا آپ ﷺ اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا 'الوسم' سے مراد یہ ہے کہ جانور پر نشان لگانے کے لیے اسے (گرم لوہے سے) داغا جائے جن لوگوں کے پاس مویشی ہوتے تھے، وہ ان پر نشان لگاتے تھے ہر قبیلے کا ایک خاص نشان ہوتا یعنی دو خط، ایک خط، مربع، دائرہ یا لالہ غرض یہ کہ ہر قبیلے کا اپنا ایک خاص نشان ہوا کرتا تھا اس نشان سے جانوروں کی حفاظت ہوتی تھی بایں طور کہ جب وہ گم ہو جائے اور لوگوں کو ملے تو وہ پہچان جائے کہ یہ فلاں قبیلے کے ہیں اور انہیں اس قبیلے کے لوگوں کی طرف ہانک دیتے "فَقَالَ" کہہ کر والد سے مراد عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہیں، جیسا کہ صحیح ابن حبان میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں بصراحت موجود ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ یا کسی جانور کو اس کے چہرے میں داغ کر نشان زد کر دیا آپ ﷺ نے اسے دیکھا تو سخت ناراض ہوئے اس پر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: "میں اب اس کے جسم کے آخری حصے میں داغ کر نشان لگاؤں گا چنانچہ انہوں نے اس کی سرین پر نشان لگایا" یعنی جب انہیں ممانعت کا علم ہوا، تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ گدھے کے اس جگہ پر نشان لگائیں گے، جو اس کے چہرے سے سب سے زیادہ دور ہو گا ابن حبان کی سابق الذکر روایت میں ہے: "میں اس کے آخری حصے میں نشان لگاؤں گا چنانچہ انہوں نے اس کی سرین کو نشان زد کیا" پھر ان کے حکم کے مطابق ان کے گدھے کی سرین پر نشان لگایا گیا جاعر سے مراد گدھے کے جسم کا آخری حصہ ہے یعنی ران، جہاں جانور دم مارتا رہتا ہے علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: "اگر نشان لگانا ہو تو مستحب یہ ہے کہ بھید بکریوں کو ان کے کانوں پر نشان لگایا جائے اور اونٹ اور گائے کو ان کے رانوں کی جڑ پر نشان زد کیا جائے کیونکہ یہ سخت جگہ ہوتی ہے اور یہاں نشان لگانے سے تکلیف کم ہوتی ہے مزید برآں اس جگہ بال بھی کم ہوتے ہیں اور نشان خوب نمایاں رہتا ہے نشان کا فائدہ یہ ہے ہوتا ہے کہ اس سے جانور ایک دوسرے سے ممتاز رہے" عباس رضی اللہ عنہ وہ پہلا شخص تھے، جنہوں نے اپنے گدھے کو اس کے پچھلے حصے میں نشان لگایا تھا



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

